

Job

Chapter 13

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| 1 | הָיָה | כָּל | רָאָתָהּ | עֵינַי | שָׁמַעְתָּהּ | אָזְנִי | וַתִּבֶן | לָהּ: |
| | دیکھو | سب | دیکھا-یے | میری-آنکھ-نے | سنا-یے | میرے-کان-نے | اور-سمجھا-یے | اُسے |
| | H2005 | H3605 | H7200 | H8085 | H0241 | H0995 | | |

ہے۔ لیا سمجھ کر سن سے کانوں اپنے دیکھا، سے آنکھوں اپنی نے میں کچھ سب یہ

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 2 | כָּדְעַתְכֶם | יָדְעֵתִי | גַם- | אֲנִי | לֹא- | נִפְלֵא | אֲזְכִּיר | מִכֶּם: |
| | تمہارے-علم-کی-طرح | جاننا-ہوں | بھی | میں | نہیں | کم-ہوں | میں | تم-سے |
| | H1847 | H3045 | H1571 | H0589 | H3808 | H5307 | H0595 | |

ہوں۔ نہیں کم سے تم میں سے ناتے اس ہوں۔ برابر تمہارے میں سے لحاظ کے علم

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | אוֹלָם | אֲנִי | אֵל- | שָׂדֵי | אֲדָבָר | וְהוֹכַח | אֵל- | אֱלֹהִים: |
| | لیکن | میں | کی-طرف | قادر-مطلق | بولوں-گا | اور-بحث-کرنا | کی-طرف | خدا |
| | H0199 | H0589 | H0413 | H7706 | H1696 | H3198 | H0413 | H0410 |

ہوں۔ رکھتا آرزو کی کرنے مباحثہ ہی ساتھ کے اللہ ہوں، چاہتا کرنا بات ہی سے مطلق قادر میں لیکن

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 4 | וְאוֹלָם | אֲתֶם | טְפִלִּי- | נִשְׁקָר | רַפְּאִי | אֵלָל | כָּלְכֶם: |
| | لیکن | تم | جوڑے-والے-ہو | جھوٹ-کے | طیب | ہے-کار | تم-سب |
| | H0199 | H2950 | H8267 | H7495 | H0457 | H3605 | |

ہو۔ ڈاکٹر ہے کار اور والے لگانے لپہ دہ فریب سب تم ہے، تعلق تمہارا تک جہاں

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 5 | מִי- | יָתֵן | חַמּוּשׁ | תַּחֲרִישׁוֹן | וַתְּהִי | לְכֶם | לְחֻכְמָה: |
| | کاش | دیتا | خاموش | رہتے | اور-ہوتی | تمہارے-لیے | حکمت |
| | H4310 | H5414 | | H1961 | H2451 | | |

ہوتی۔ ظاہر زیادہ کہیں حکمت تمہاری سے کرنے ایسا رہتے! خاموش سراسر تم کاش

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6 | שָׁמַעְתָּ | נָא | תּוֹכַחְתִּי | וְרִבּוֹת | שִׁפְתָי | הִקְשִׁיבוּ: |
| | سنو | براہ-کرم | میری-دلیل | اور-دلائل | میرے-ہونٹوں-کے | توجہ-دو |
| | H8085 | H4994 | H7379 | H8193 | H7181 | |

کرو! غور پر بیانات میرے میں عدالت سنو، موقف میرا ذرا میں مباحثے

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|------------|
| 7 | הֲלֵאֵל | תִּדְבְּרוּ | עֲלֵיָהּ | אֵלָו | תִּדְבְּרוּ | רְמוּתָהּ: |
| | کیا-خدا-کے-لیے | بولو-گے | ناانصافی | اور-اُس-کے-لیے | بولو-گے | فریب |
| | H0410 | H1696 | | H1696 | | |

ہو؟ بولتے جھوٹ خاطر کی اسی کیا ہو، کرتے پیش باتیں رو کج خاطر کی اللہ تم کیا

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 8 | הַפְּנִי | הַשְּׂאוֹן | אִם- | לֵאמֹר | תִּרְיָבוֹן: |
| | کیا-اُس-کی-طرفداری | کرو-گے | کیا | خدا-کے-لیے | بحث-کرو-گے |
| | H6440 | H5375 | H0410 | H7378 | |

ہو؟ چاہتے لڑنا میں حق کے اللہ ہو، چاہتے کرنا داری جانب کی اُس تم کیا

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------------------|-------------|-------|
| 9 | הַטּוֹב | כִּי- | יִחְקַר | אֶתְכֶם | אִם- | כִּדְבָר | בְּאִזְנוֹ | תִּדְבְּלוּ | בּוֹ: |
| | کیا-اچھا-ہوگا | کہ | جانچے-گا | تمہیں | کیا | جیسے-دھوکہ-دیتے-ہو | انسان-کو | دھوکہ-دو-گے | اُسے |
| | | | H2713 | H0853 | | | H0582 | | |

بے؟ جاتا دیا دھوکا کو انسان طرح جس ہو سکتے دے دھوکا یوں اُسے تم کیا گی؟ بنے بات تمہاری کیا تو کرے جانچ تمہاری وہ اگر لو، سوچ

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | הוֹרֵךְ | יֹדִיחַ | אֶתְכֶם | אִם | בְּיָדְךָ | פָּנִים | הַשָּׂאוֹן: |
| | ضرور | ڈانٹے-گا | تمہیں | اگر | خفیہ-میں | رو | ترفداری-کرو |
| | H3198 | H3198 | H0853 | | | H6440 | H5375 |

گا۔دے سزا سخت ضرور تمہیں وہ تو دکھاؤ داری جانب بھی پر طور خفیہ تم اگر

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 11 | הָלֹא | שְׂאֵתוֹ | תִּבְעֵת | אֶתְכֶם | וּפְחָדוֹ | יָפֵל | עֲלֵיכֶם: |
| | کیا-نہیں | اُس-کی-عظمت | ڈرائے-گی | تمہیں | اور-اُس-کا-خوف | گرے-گا | تم-پر |
| | H3808 | H7613 | H1204 | H0853 | H6343 | H5307 | |

گے؟ کھاؤ نہیں دہشت سخت سے اُس تم کیا گا؟ کرے نہیں زدہ خوف تمہیں رُعب کا اُس کیا

| | | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 12 | זְכָרְיָיִכֶם | מִשְׁלֵי- | אֶפְרַח | לְנִבִי- | אֲחֹר | נִבְיָיִכֶם: |
| | تمہارے-یادگاری-کہاوتیں | راکہ-کی-طرح | راکہ | ڈھیر-کی-طرح | مٹی-کے | تمہارے-ڈھیر |
| | H2146 | H4912 | H0665 | H1354 | | H1354 |

ہیں۔الفاظ کے مٹی باتیں تمہاری کہ گا چلے پتا گی، ہوں ثابت امثال کی راکہ وہ ہو رہتے دلاتے تم یاد کی کہاوتوں جن پھر

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|-----------------------|
| 13 | תְּחַרְישוּ | מִמֶּנִּי | וְאֶדְבַּרְהָ | אֲנִי | וַיַּעֲבֹר | עָלַי | מָה: |
| | خاموش-رہو | مجھ-سے | اور-بولوں-گا | میں | اور-گزرے | مجھ-پر | جو-کچھ-بھی |
| | | | H1696 | H0589 | | | H4100 |

ہوں۔چاہتا کرنا بات مَیں جائے، ہو ساتھ میرے بھی کچھ جو اُو! باز سے مجھ کر ہو خاموش

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 14 | עַל- | וּמָה | אֲשָׂא | בְּשָׂרִי | בְּשֵׁנִי | וְנִפְשִׁי | אֲשִׁים | בְּכַפִּי: |
| | کیوں | کیا | اٹھوں-گا | اپنا-گوشت | اپنے-دانتوں-میں | اور-اپنی-جان | رکھوں-گا | اپنے-ہاتھ-میں |
| | | H4100 | H5375 | H1320 | H8127 | H5315 | | H3709 |

گا۔کھیلوں پر جان اپنی مَیں ہوں، تیار لے کے ڈالنے میں خطرے کو آپ اپنے مَیں

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | הֵן | יִקְטְלֵנִי | לֹא | לֹא | אֵיחָל | אֶד- | אֶד- | אֶל- | פָּנָיו |
| | دیکھو | مار-ڈالے-گا-مجھے | کچھ-نہیں | اُس-پر | امید-رکھوں-گا | لیکن | اپنے-راستے | کی-طرف | اُس-کے-سامنے |
| | H2005 | H6991 | H3808 | | H3176 | H0389 | H1870 | H0413 | H6440 |

اَوْכִיחַ:

ثابت-کروں-گا
[H3198](#)

گا۔کروں دفاع کا رابوں اپنی سامنے کے اُسی مَیں ہو بھی کچھ جو ہے۔ ربی جاتی اُمید میری کیونکہ نہیں، بات کوئی ڈالے۔ مار مجھے وہ شاید

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | גַם- | הוּא- | לִי | לְיִשׁוּעָה | כִּי- | לֹא | לְפָנָיו | חָנַף | יָבוֹא: |
| | بھی | بھی | میرے-لیے | نجات-ہوگی | کیونکہ | نہیں | اُس-کے-سامنے | منافق | آئے-گا |
| | H1571 | H1931 | | H3444 | | H3808 | H6440 | H2611 | H0935 |

کرتا۔نہیں جرأت کی آنے حضور کے اُس بے دین کہ ہوں لیتا پناہ مَیں اِس اور

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17 | שָׁמְעוּ | שָׁמְעוּ | מִלְתִּי | אֶחָדָתִי | בְּאָזְנוֹיִכֶם: |
| | سنو | غور-سے | میری-بات | اور-میرا-بیان | تمہارے-کانوں-میں |
| | H8085 | H8085 | H4405 | H0262 | H0241 |

دھرو۔پر بیانات میرے کان اپنے سنو، الفاظ میرے سے دھیان

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 18 | הִנֵּה- | נָא | עֲרַכְתִּי | מִשְׁפָּט | יָדְעוּ | כִּי- | אֲנִי | אֶצְדֹּק: |
| | دیکھو | براہ-کرم | تیار-کیا-ہے-میں-نے | مقدمہ | جانتا-ہوں | کہ | میں | راستباز-ٹھہروں-گا |
| | H2009 | H4994 | | H4941 | H3045 | | H0589 | H6663 |

ہوں! پر حق مَیں کہ بے معلوم صاف مجھے ہے۔ کیا تیار معاملہ اپنا سے ترتیب اور احتیاط نے مَیں کہ گا چلے پتا تمہیں

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 19 | מִי- הוּא | יָרִיב | עֲמָדִי | כִּי- עֲתָה | אֲחֵרִישׁ | וְאֶנְוֶע: |
| | کون ہے | بحث-کرے-گا | میرے-ساتھ | کیونکہ | خاموش-رہوں-گا | اور-دم-توڑوں-گا |
| | H1931 | H7378 | H5978 | H6258 | | H1478 |

گا۔ رہوں خاموش تک چھوڑنے دم گا، جاؤں ہو چپ میں تو سکے کر ثابت مجرم مجھے کوئی اگر

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | אֶדְ- שְׁתִּים | אֶל- תַּעַשׂ | עֲמָדִי | אָז | מִפְּנֵיךְ | לֹא | אֶסְתֵּר: |
| | صرف دو-باتیں نہ | کر | میرے-ساتھ | تب | تیرے-سامنے-سے | نہیں | چھپوں-گا |
| | H8147 | H0408 | H5978 | | H6440 | H3808 | H5641 |

ہو۔ نہ ضرورت کی جانے چھپ سے تجھ مجھے تاکہ کر منظور درخواستیں دو صرف میری اللہ، اے

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21 | כִּפְּךָ | מִעֲלֵי | הַרְחֵק | אֶל- | תִּבְעַתְנִי: | |
| | اپنا-ہاتھ | مجھ-سے | دور-کر | اور-تیرا-خوف | نہ | ڈرائے-مجھے |
| | H3709 | | H7368 | H0408 | H0367 | H1204 |

کرے۔ نہ زدہ دہشت مجھے خوف تیرا تاکہ کر دور سے مجھ ہاتھ اپنا پہلے،

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 22 | וְקָרָא | וְאֶנְכִי | אֶעֱנֶה | אֶז- | אֲדַבֵּר | וְהִשִּׁבְנִי: |
| | اور-پکار | اور-میں | جواب-دوں-گا | یا | بولوں-گا | اور-جواب-دے-مجھے |
| | H7121 | H0595 | | H1696 | | H7725 |

دے۔ جواب کا اس ہی تو اور دے بولنے پہلے مجھے یا دون، جواب میں تاکہ بلا مجھے بعد کے اس دوسرے،

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 23 | כַּמְּהָ | לִי | עֲוֹנוֹת | וְחַטָּאוֹת | פְּשָׁעֵי | וְחַטָּאוֹתֵי | הַדְּרִיעָנִי: |
| | کتنے | میرے | بدکاریاں | اور-گناہ-بیں | میرا-قصور | اور-میرا-گناہ | بتا-مجھے |
| | H4100 | | H5771 | | H6588 | | H3045 |

کر! ظاہر گناہ میرا اور جرم میرا پر مجھ ہیں؟ بوئی غلطیاں اور گناہ کتنے سے مجھ

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 24 | לְמַדָּה- | פְּנִיךְ | תִּסְתִּיר | וְתַחֲשִׁבְנִי | לְאוֹיֵב | לְךָ: |
| | کیوں | اپنا-چہرہ | چھپاتا-ہے-تُو | اور-سمجھتا-ہے-مجھے | دشمن | اپنے-لیے |
| | H4100 | H6440 | H5641 | H2803 | H0341 | |

ہے؟ سمجھتا دشمن اپنا کیوں مجھے تُو ہے؟ رکھتا کیوں چھپائے سے مجھ چہرہ اپنا تُو

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 | הַעֲלֶה | גִּדְךָ | תַּעֲרוֹץ | וְאֶת- | קִשׁ | יִבֵּשׁ | תִּרְדֶּךָ: |
| | کیا-پتے-کو | اڑتے-ہوئے | ڈرائے-گا-تُو | اور | بھوسے-کو | سوکھے-ہوئے | پیچھا-کرے-گا-تُو |
| | H5929 | H5086 | H6206 | H0853 | H7179 | H3002 | H7291 |

ہے؟ چابتا کرنا تعاقب کا بھوسے خشک چابتا، کھلانا دہشت کو پتے ہوئے اڑائے کے جھونکوں کے ہوا تُو کیا

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 26 | כִּי- | תִּכְתֵּב | עָלַי | מִרְדּוֹת | אֲתוֹרִישְׁנִי | עֲוֹנוֹת | נְעוּרָי: |
| | کیونکہ | لکھتا-ہے-تُو | میرے-خلاف | تلخیاں | اور-وراثت-میں-دیتا-ہے-مجھے | بدکاریاں | جوانی-کی |
| | | H3789 | | H4846 | H3423 | H5771 | |

پاؤں۔ سزا کی گناہوں کے جوانی اپنی میں کہ ہے مرضی ہی تیری گزروں، سے تجربوں تلخ میں کہ ہے فیصلہ ہی تیرا یہ

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 27 | וְתִשֵּׁם | וּבִסֹּד | רִגְלֵי | וְתִשְׁמֹר | כָּל- | אֲרַחֲתֵנִי | עַל- | שְׂרָשְׁתִּי |
| | اور-رکھتا-ہے-تُو | کاٹھ-میں | میرے-پیر | اور-نگرانی-کرتا-ہے-تُو | سب | میرے-راستوں-کو | اوپر | جزوں |
| | | H5465 | H7272 | H8104 | H3605 | H0734 | | H8328 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| رِגְלֵי | הַתְּחַקֶּה: |
| میرے-پیروں-کی | نشان-لگاتا-ہے-تُو |
| H7272 | H2707 |

ہے، دیتا دھیان پر قدم نقش ایک ہر میرے تُو ہے۔ کرتا داری پہرا کی رابوں تمام میری کر ٹھونک میں کاٹھ کو پاؤں میرے تُو

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| 28 | וְהוּא | דְּרָקֵב | יְבִלָּה | דְּכָנֵד | אֶכְלוּ | עִשׂ: |
| اور-وہ | سڑن-کی-طرح | بوسیدہ-ہوتا-ہے | کپڑے-کی-طرح | کھا-جاتا-ہے-جسے | کیڑا | |
| H1931 | H7538 | H1086 | | H0398 | | |

ہوں۔ لباس ہوا کیا خراب کا کیڑوں اور مشک پھٹی گھسی کی مے میں گو